

بینک چارجز کا شیڈول

یکم جولائی 2020 سے 31 دسمبر 2020 تک

بین الاقوامی بینکاری

A درآمدات I کیش لیٹرز آف کریڈٹ AA. اوپننگ

تقویمی سال کے دوران تکمیل شدہ کاروبار / سالانہ حجم:
a. 10 ملین روپے تک
b. 10 ملین روپے سے 100 ملین روپے تک
c. 100 ملین روپے سے زائد

کم از کم	پہلی سہ ماہی	ہر اگلی سہ ماہی یا اس کا حصہ (کمیشن)
کم از کم 2100 روپے	0.40 فیصد	0.20 فیصد
کم از کم 2100 روپے	0.30 فیصد	0.15 فیصد
کم از کم 2100 روپے	0.15 فیصد	0.10 فیصد

نوٹ: اگر دوران سال صارف / گروپ کے ایل سی کاروبار کا مجموعی حجم 200 ملین روپے سے تجاوز کرتا ہے تو درج بالا کمیشن مجاز اختیار سے منظوری حاصل کرنے کے بعد ایڈجسٹمنٹ سے مشروط ہے۔

AB. میعاد ختم ایل سیز کی توثیق نو یا نئے فائدہ اٹھانے والوں کو منتقل کرنا

وہی کمیشن ہوگا جو نئی ایل سیز کے کھلنے پر قابل اطلاق ہے۔
درج بالا AA-I
1.00 فیصد 0.30 فیصد 1500 روپے

II بارٹر امداد / قرضوں کے تحت غیر قابل ادائیگی ایل سیز:

III ترامیم:

a. اگر رقم اور / یا مدت شامل نہ ہو
b. اگر رقم اور / یا مدت میں اضافہ شامل ہو
IV ایل سی کی منسوخی کے چارجز

V ریٹائرمنٹ:

1 یوزنٹس بلز:

میعاد ادائیگی پر

1800 روپے (فلیٹ)

1800 روپے بمعہ درج بالا AA-I کے مطابق کمیشن

1800 روپے بمعہ سوئفٹ چارجز

فی بل 800 روپے، زائد کمیشن کی شرح سے فی مہینہ 0.15 فیصد یا اس کا حصہ۔
پہلے سے وصول شدہ ایل سی کمیشن کی مدت ختم ہونے کے بعد کم از کم 800 روپے
(درآمداتی دستاویزات کی ریٹائرمنٹ پر 0.15 فیصد سروس چارجز کی شرح کے حساب سے کم از کم 1000 روپے وصول کیے جائیں گے)
فی بل 1000 روپے فلیٹ
پی اے ڈی لو جمنٹ کی تاریخ سے لاگو شرح منافع یا ہمارے انویسٹر اکاؤنٹ کے پہلے سے ڈیبٹ ہونے کی صورت میں، انویسٹر اکاؤنٹ کے ڈیبٹ ہونے کی تاریخ سے لاگو شرح منافع

ایل سی / معاہدہ / مستاجرہ کے تحت یوزنٹس بلز کی میعاد ادائیگی میں اضافہ
2 سائٹ:

ریٹائرمنٹ پر پی اے ڈی شرح منافع کے لیے قابل اطلاق نرخ درج ذیل ہیں

a. پہلے دن سے لے کر بیسویں دن تک
b. اگلے اکیس دنوں سے پینتیس دنوں تک
c. لو جمنٹ کے پینتیس دنوں بعد

ریٹائرمنٹ تک فی دن 1000 پر 50 پیسے
ریٹائرمنٹ تک فی دن 1000 پر 51 پیسے
ریٹائرمنٹ تک فی دن 1000 پر 52 پیسے
(درآمداتی دستاویزات کی ریٹائرمنٹ پر 0.15 فیصد سروس چارجز کی شرح کے حساب سے کم از کم 900 روپے وصول کیے جائیں گے)
کم از کم 1000 روپے یومیہ بل کی رقم سے قطع نظر

3. واجب الادا رقم کی منظوری

VI اندرونی غیر ملکی دستاویزی بلز:

- تمام اندرونی کمیشن پر لاگو ہینڈلنگ چارجز/ اکاؤنٹ اوپننگ
- بنیاداً نیکی، واپس کی گئی اشیاء/ بشمول کوریئر چارجز
- تمام کمیشن غیر ملکی بلز/ بشمول معاہدہ/ ریٹائرمنٹ

d سوئفٹ چارجز

800 روپے
یو ایس ڈالر 90 (یا فارورڈنگ بینک کی طرف سے اس کے برابر کی غیر ملکی کرنسی)
(درآمدی دستاویزات کی ریٹائرمنٹ پر 0.15 فیصد سروس چارجز کی شرح کے حساب سے کم از کم 350 روپے وصول کیے جائیں گے)
1000 روپے (اوپر دیئے گئے پوائنٹ نمبر VI A، VIB اور VIC پر لاگو ہیں۔)

VII درآمدات کے عوض پیگنگی ادائیگی

- سوئفٹ منتقلی
- ڈیمانڈ ڈرافٹ
- سروس چارجز

1500 روپے

500 روپے

0.15 فیصد - کم از کم 1500 روپے

VIII کریڈٹ رپورٹس:

- غیر ملکی بینکوں کے لیے، اُن کی درخواست پر
 - غیر ملکی بینکوں کے لیے، صارف کی درخواست پر
- ### IX درآمدات کے لیے کنسائنمنٹ کی بنیاد پر معاہدہ/ مستاجرہ کارجسٹریشن
- درآمدات کے لیے کنسائنمنٹ کی بنیاد پر معاہدہ/ مستاجرہ کارجسٹریشن
 - درآمدات کے لیے کوٹریکٹس کے رجسٹریشن میں تبدیلیاں
 - i. اگر رقم اور/ یا مدت شامل نہ ہو
 - ii. اگر رقم میں اضافہ اور/ یا مدت شامل ہو

غیر ملکی بینکوں سے یو ایس ڈالر 100
اصل پر بشمول 30 امریکی ڈالر یا اسکے مساوی پاکستانی روپے بطور سروس چارجز وصول کیے جائیں گے
0.15 فیصد فلیٹ، کم از کم 1800 روپے

800 روپے (فلیٹ)

800 روپے علاوہ درج بالا IXA کے مطابق کمیشن

X تلافی چارجز (ری امبرسنگ بینک کو قابل ادا)

XI پیغام کی ترسیل

a. فُل سوئفٹ لیٹر آف کریڈٹ

b. ایل سی میں فوری ترمیم

XII متضاد دستاویز کی ہینڈلنگ

XIII FoB کی بنیاد پر درآمد کے لئے فریٹ سرٹیفکیٹ کا اجراء

XIV ای آئی ایف ہینڈلنگ چارجز

XV بینک سے بینک کو ای آئی ایف کی منتقلی

XVI دیگر چارجز

B برآمدات

1. لیٹرز آف کریڈٹ

a. ایڈوانسنگ -

کسٹمرز کے لیے

نان کسٹمرز کے لیے

کسٹمرز کے لیے

نان کسٹمرز کے لیے

c. برآمداتی ایل سیز کے تحت روپے بل میں نیگوسیشن کرنا

d. تصدیق

1500 روپے بمعہ کوریئر چارجز (اگر لاگو ہوں)

2500 روپے بمعہ کوریئر چارجز

1000 روپے بمعہ کوریئر چارجز (اگر لاگو ہوں)

1500 روپے بمعہ کوریئر چارجز

0.30 فیصد - کم از کم 1000 روپے

کم از کم 1250 روپے یا 0.40 فیصد فی سہ ماہی، جو بھی زیادہ ہو

زیادہ سے زیادہ - ہر کیس کی بنیاد پر

1500 روپے

300 روپے

1200 روپے

e. برآمداتی ایل سیز کی منتقلی

f. نان ریڈیڈ روپے اکاؤنٹ سے دیگر مقامی بینکوں کو ادائیگی تلافی

II اگر محدود ایل سیز کے تحت دستاویزات دیگر بینکوں کو نیگوسیشن کے لیے بھیجے گئے ہوں

III کلیمشنز

a. دستاویزی (جس پر بینک کو کچھ ڈفرنس نہیں ملتا)

IV ڈیوٹی ڈرائیگ دعوے کی ہینڈلنگ

V پیمنٹ کور پہلے سے ہی بینک کے فارن کرنسی اکاؤنٹ (NASTRO) میں وصول ہو جانے کی صورت میں، کلیمشن کی بنیاد پر بھیجے گئے برآمداتی دستاویزات پر لاگوسروس چارجز

VI سائٹ لیٹرز آف کریڈٹ کے تحت غیر ملکی کرنسی بلز کی ٹیکو ایشن

VII پیٹنگی ادائیگی پرسروس چارجز

VIII ایس پی او (اسٹینڈرائزڈ پریچیز آرڈر)

IX فریٹ سبسڈی

X ای ای کی تصدیق

XI دیگر بینکوں کو ای ای / ای ایف این او سی کا اجراء

XII برآمدی ری فنانس درخواست کے لیے ہینڈلنگ چارجز

XIII برآمدی ڈولپمنٹ سرچارج

XIV پی آر سی کے اجراء، جارج پڑتال، تصحیح اور آراینڈ ڈی کی ادائیگی کے لیے کیس کو آگے

اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بھیجے پرسروس چارجز - گارمنٹ کی صنعت سے تعاون

XV مقامی ٹیکسز اور لیویز کے ڈرائیگ (گارمنٹ، ہوم ٹیکسٹائل اور فیبرکس)

XVI پروسیسڈ فوڈ کی برآمدات کے لیے 6 فیصد ریسرچ اینڈ ڈولپمنٹ سپورٹ

XVII لائیو فوڈز کے برآمد کنندگان کے لیے 25 فیصد فریٹ سبسڈی (ٹی ڈی اے پی کے تحت)

XVIII این لینڈ فریٹ سبسڈی

XIX بزنس پرفارمنس سرٹیفکیٹ

XX ڈیوٹی ڈرائیگ پر دعویٰ کرنے کے لیے ڈپلیکیٹ انکس اے کا اجراء

XXI جب برآمد کنندہ کسی دوسرے بینک کو غیر ملکی زرمبادلہ فروخت کرے اور وصولی کی

دستاویزات بذریعہ بینک الحیب بھیجی جائیں تو ایسی صورت میں، زرمبادلہ سے حاصل ہونے

والی رقم کی جگہ ہینڈلنگ اور سروس چارجز

XXII ایکسپورٹ بلز پورنگنگ کے بقایا جات کی ہینڈلنگ اور سروس چارجز

XXIII ڈیوٹی ڈرائیگ کی ہینڈلنگ (ڈی ایل ٹی ایل) / ٹیکسٹائل / نان - ٹیکسٹائل

ہینڈلنگ چارجز (انکریمنٹل اسلیمز)

XXIV گندم / گندم کے آٹے، شکر اور ٹیکسٹائل / نان - ٹیکسٹائل اور دیگر سبسڈیز کی

برآمدات برسیسڈ ڈی کلیمز کی ہینڈلنگ

XXV کلیمشن دستاویزات کے بارے میں بات چیت کے لئے دیگر بینکوں کے نام

برآمدکار این او سی کا اجراء / دیگر بینکوں کو ای ایف ای کی منتقلی

XXVI اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو برآمد کی دستاویزات جمع کروانے کے عوض پیٹنگی ادائیگی

XXVII بی ایل سے سبکدوش ہونے پر شپنگ کمپنیوں کو این او سی کا اجراء / بی ایل کی کشدگی پر

XXVIII دوسرے بینک کو برآمد کی کارروائیوں کی منتقلی، جہاں ہماری جانب سے کسی

دستاویزات کی ہینڈلنگ نہیں کی گئی

XXIX ایل ٹی ایف ایف (ایس بی پی) پیپلیکیشنز کیلئے ہینڈلنگ چارجز

c. کلیمشن (غیر ملکی کرنسی)

I پھرونی

a. کلیمن بلز

b. بنیاد ٹیکو واپس شدہ چیکس

c. لوکل یو ایس ڈالر کلیمشن

d. لوکل یو ایس ڈالر کلیمشن کے واپس شدہ چارجز

900 روپے

25 پیسے فی 100 روپے (کم از کم 1000 روپے)

10 پیسے فی 100 روپے (1 روپیہ فی 1000 روپے) کم از کم 1500 روپے

او۔ ڈی بانگ شرح لاگو ہوگی۔ اگر 12 دن کے اندر بل کی ادائیگی نہیں ہوئی تو 12 دن بعد کسی بھی تاخیر کے لیے فی دن ہزار روپے پر 44 پیسے وصول کیے جائیں گے۔

15 پیسے فی 100 روپے (1.5 روپیہ فی 1000 روپے) کم از کم 1500 روپے

250 روپے فی آرڈر

1000 روپے فی کیس

1000 روپے فی کیس

1250 روپے

1000 روپے فی سیمیشن

100 روپے فی بل

1000 روپے

1000 روپے فی دعویٰ

1000 روپے فی دعویٰ

1000 روپے فی دعویٰ

1000 روپے فی دعویٰ

500 روپے

500 روپے فی ٹرانزیکشن

0.10 فیصد کی شرح پر کم از کم 1250 روپے

ٹرانزیکشن کی رپورنگنگ کے وقت فی E فارم - 1000 روپے

- 100 روپے فی شپمنٹ / فی ٹرانزیکشن

- 1000 روپے فی کیس۔

- 500 روپے

- 600 روپے

- 1000 روپے فلیٹ

- 1000 روپے۔ بشمول ٹی۔ ٹی چارجز

2000 روپے فی کیس

یو ایس ڈالر 5 یا اس کے مساوی غیر ملکی کرنسی علاوہ کوریئر چارجز

ریٹرننگ بینک کے اصل چارجز علاوہ یو ایس ڈالر 5 یا اس کے مساوی غیر ملکی کرنسی

350 روپے فی انسٹرومنٹ

300 روپے فی انسٹرومنٹ

II اندرونی کلین کلیکشن

پاکستانی روپے کی صورت میں، 200 روپے
غیر ملکی کرنسی کی صورت میں، یو ایس ڈالر 5 یا اس کے مساوی غیر ملکی کرنسی

D. ترسیلات زر - غیر ملکی بیرونی

یو ایس ڈالر 12.50
یو ایس ڈالر 30
یو ایس ڈالر 10
یو ایس ڈالر 5 علاوہ اصل پر غیر ملکی بینک کے چارجز

a. ڈیمانڈ ڈرافٹ
b. ایف ٹی ٹی
c. ایف ڈی ڈی کی منسوخی
d. ایف ڈی ڈی کی ادائیگی روکنا

II اندرونی

اگر پرو سیڈز بینک کے پاس موجود اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو جائیں تو کوئی چارجز نہیں،
بصورت دیگر 250 روپے وصول کیے جائیں گے۔
1 فیصد کمیشن

a. ڈی ڈی / ٹی ٹی / ایم ٹی

III غیر ملکی ٹریولرز چیکس کا اجراء

E خریدے گئے فارن بلز

I غیر ملکی کرنسی انسٹرومنٹس:

او۔ ڈی بانگ شرح لاگو ہوگی۔ اگر 12 دن کے اندر بل کی ادائیگی نہیں ہوئی تو 12
دن بعد کسی بھی تاخیر کے لیے فی دن ہزار روپے پر 50 پیسے علاوہ 50 روپے ہینڈلنگ
چارجز وصول کیے جائیں گے۔
متفرق سیکشن "F" کے مطابق

II دیگر چارجز

F. متفرق:

اصل پر

I غیر ملکی بینک کے چارجز

II پونج / کوریئر / سونفٹ چارجز کی وصولی کی تفصیلات درج ذیل ہیں:

پونج
کوریئر

200 روپے

i. 1800 روپے

ii. اگر کوریئر کمپنی کسٹمر کے اکاؤنٹ سے کوریئر چارجز ڈیبٹ کر لے تو سروس چارجز

150 روپے لاگو ہوں گے۔

1000 روپے فی پیغام

سونفٹ

ہر صارف سے 50 امریکی ڈالر یا اس کے مساوی پاکستانی روپے وصول کیے جائیں

III غیر ملکی خریداروں / سپلائرز کی کریڈٹ رپورٹ

275 روپے

1500 روپے فی کیس

IV دیگر بینکوں سے ٹیسٹ کی تصدیق کے چارجز:

V غیر ملکی زرمبادلہ کی ٹرانزیکشنز کی ترسیلات زر کیلئے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے منظوری کیلئے،

جہاں ضرورت ہو

اندرون ملک بینکاری

A. ترسیلات زر:

a. بینکرز چیک کا اجراء

250 روپے (تعلیمی اداروں، ایچ ای سی/ بورڈ وغیرہ کی فیس/ واجب الادا رقم کیلئے بینکرز چیک/ ڈیمانڈ ڈرافٹ پر فیس لاگو نہیں ہوگی)۔

b. ڈرافٹس، ایم ٹیز، ٹی ٹیز کا اجراء

i. ہمارے خطوط کے ذریعے وصول کردہ کورسپونڈینٹ کے ذریعے ادائیگی

0.10 فیصد - کم از کم 200 روپے

150 روپے

25 روپے فی شے

100 روپے فی منتقلی بشمول فیس کی لاگت

c. فیکس / ٹی ٹیز پرسونلٹ چارجز

d. پوسٹل

e. منتقلی بذریعہ آئی بی سی اے

f. (i) آن لائن کیش جمع کرنا / رقم نکالنا

II ڈی ڈی / پی او / بینکرز چیک کی منسوخی کے چارجز

III ڈی ڈی کی ادائیگی روکنا

IV ڈیمانڈ ڈرافٹ کی ڈپلیکیٹ

V ڈپلیکیٹ بینکرز چیک

100 روپے فی ٹرانزیکشن (اندرون شہر) 300 روپے فی ٹرانزیکشن (بیرون شہر)

350 روپے

200 روپے

200 روپے

350 روپے

B. اندرون ملک تجارت

I مبادلہ ختم ایل سیز کی توثیق نو یا نئے فائدہ اٹھانے والوں کو منتقل کرنا

II اندرون ملک لیٹرز آف کریڈٹ کھلنے کا کمیشن

III اندرون ملک ایل سی دستاویزات کے لیے تضادات کے چارجز

IV ایل سیز میں ترمیم

a. اگر رقم اور / یا مدت شامل نہ ہو

b. اگر مدت شامل ہو

c. اگر رقم میں اضافہ شامل ہو

وہی کمیشن ہوگا جو نئی ایل سیز کے کھلنے پر قابل اطلاق ہے۔

0.50 فیصد فی سہ ماہی اور بعد کی سہ ماہیوں کے لیے 0.30 فیصد کم از کم 1800 روپے

750 روپے

1250 روپے

1250 روپے علاوہ کمیشن، بعد کی فی سہ ماہی کے لیے 0.30 فیصد کی شرح پر

B(II) کے مطابق 900 روپے علاوہ کمیشن

V ریٹائرمنٹ:

- 1- مقامی ایل سی کے تحت نکلوائے جانے والے بلز کی ریٹائرمنٹ
- 2- یونینس بلز: میعاد ادا نیگی پر

تمام بلز کی ریٹائرمنٹ پر (یونینس اور سائٹ) 0.05 فیصد سروس چارجز
500 روپے فی بل، زائد کمیشن کی شرح کے مطابق 0.10 فیصد فی مہینہ یا اس کا کچھ
حصہ پہلے سے کورڈ ایل سی کمیشن کی مدت کے بعد پی اے ڈی لو جمنٹ کی تاریخ سے
لاگو شرح منافع

3 سائٹ

- (i) ریٹائرمنٹ پر پی اے ڈی شرح منافع کے لیے قابل اطلاق نرخ درج ذیل ہیں
- a. پہلے دن سے لے کر بیسویں دن تک
- b. اگلے اکیسویں دن سے پینتیسویں دن تک
- c. لو جمنٹ کے پینتیسویں دن کے بعد

ریٹائرمنٹ تک 1000 پر 46 پیسے فی دن
ریٹائرمنٹ تک 1000 پر 47 پیسے فی دن
ریٹائرمنٹ تک 1000 پر 50 پیسے فی دن

VI کلکیشنز

- a. دستاویزی (ایل ڈی بی سی اور ایل ای ڈی بی سیز)
- b. کلین (بشمول چیکس)

0.35 فیصد کم از کم 300 روپے بمعہ ادا نیگی کرنے والے بینک کے چارجز
0.25 فیصد کم از کم 30 روپے، زیادہ سے زیادہ 600 روپے بمعہ ادا نیگی کرنے والے
بینک کے چارجز
250 روپے

- c. رجسٹریشن کے ہینڈلنگ چارجز / اسٹینڈرڈ پرچیز آرڈر کی ادا نیگی (ایس پی او)

VII اندرون ملک ایل سیز کے لیے نیگوسیشن

VIII بلز اور چیکس وغیرہ کی خریداری:

0.35 فیصد کم از کم 100 روپے بمعہ شرح سود سے 36 پیسے فی دن فی ہزار انسٹرومنٹ
کی خریداری کی تاریخ سے لیکر انسٹرومنٹ کی وصولی بمعہ بینک چارجز

- a. دستاویزی بلز علاوہ اُن کے جو ایل سی اور کلین بلز / ٹریڈ چیکس پر وصول کیے گئے ہوں

- b. دیگر چیکس / ڈیمانڈ انسٹرومنٹ (جیسے ڈیویڈنڈ وارنٹس)

انسٹرومنٹ کی خریداری کی تاریخ سے لے کر ادا نیگی کی وصولی کی تاریخ تک
0.35 فیصد کم از کم 25 روپے، فی دن ہزار روپے پر 36 پیسے کا شرح منافع کے
ساتھ، علاوہ ادا نیگی کرنے والے بینک کے چارجز
500 روپے

IX بغیر ادا نیگی واپس آنے والے مقامی بلز

- X متفرق چارجز: درج ذیل کے مطابق جہاں قابل اطلاق ہو (درج بالا V-I) زائد
چارجز ہوں گے۔

- a. کلکیشننگ بینک چارجز (اگر کلکیشننگ بینک، بینک الحیب لمیٹڈ کے علاوہ کوئی دوسرا ہو) اصل علاوہ 50 روپے
- b. بذریعہ فون / فیکس انسٹرومنٹس کی پوچھ گچھ 50 روپے
- c. انسٹرومنٹ واپس کرنے کے چارجز

200 روپے بمعہ پونج / کوریئر چارجز
50 روپے بمعہ پونج / کوریئر چارجز
50 پیسے فی دن فی پیکٹ، کم از کم 50 روپے

- d. اسٹورج چارجز
- e. کوریئر چارجز:

60 روپے
125 روپے

- بینک الحیب کی برانچوں کے لیے
- دیگر بینکوں کے لیے
- C. فنانسنگ / ایڈوانسز

- I درج ذیل چارجز، مارک اپ کے ساتھ اضافی لیے جائیں گے:
- منصوبے پر عمل درآمد اور جائزہ فیس
- قانونی اور انتظامی فیس
- متفرق چارجز (سیکیورٹی اور مینٹنس کا جائزہ)

صارف کے ساتھ معاہدے کے مطابق کیس کی بنیاد پر
اصل پر یا صارف کے ساتھ معاہدے کے مطابق کیس کی بنیاد پر
اصل پر یا صارف کے ساتھ معاہدے کے مطابق کیس کی بنیاد پر

II رہن پر فنانس کے لیے

درج ذیل چارجز نافذ ہو سکتے ہیں:

اصل
اصل

اصل کی ترسیل کے چارجز علاوہ 400 روپے
قوانین کے مطابق فی اے اور ڈی اے علاوہ 400 روپے
اصل کی ترسیل کے چارجز علاوہ 100 روپے فی ترسیل

اصل

(i) بلدیاتی حدود - 1000 روپے کے اندر
(ii) بلدیاتی حدود سے باہر - 2000 روپے فی معائنہ (45-30 دنوں میں زیادہ سے زیادہ 1 مرتبہ)

نوٹ: بینک کے ایگزیکٹو/ایکسٹرنل اور انٹرنل آڈیٹرز کی جانب سے گودام پر کبھی بکھارا چانک
معائنے کی صورت میں چارجز نہیں ہونگے
اگر کوئی باری کریڈٹ لائن کی منظوری حاصل کئے ہوئے ہو اور کمیٹیڈ کیے گئے کاروبار کو
پہنچانے میں ناکام ہو جائے تو بینک کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ متلافی کمیشن وصول کرے جو
کم از کم زیادہ سے زیادہ 5 فیصد کی شرح سے کاروبار میں خسارے کی حد تک ہو، وہ کاروبار جو کہ
بینکی انتظام کے مطابق ہمارے ساتھ کرنے کا وعدہ کیا گیا ہو۔
150 روپے فی ترسیل
اصل

2000 روپے فی دستاویز

500 روپے
اصل

100 روپے فی رپورٹ
زائد المعیاد کی تاریخ / ادائیگی کی تاریخ تک میچورٹی سے 20% سالانہ

2500/- روپے فیٹ نی NOC

2500/- روپے فیٹ نی جائیداد بشمول قانونی / وینڈر فیس

اصل پر

اسٹیمپ پیپر / چپکنے والے ڈاک ٹکٹ کی اصل قیمت پر

6000 روپے

اصل پر

واجب الادا گھل رقم کا 1 فیصد

اصل پر

اصل پر

لیز ریٹیل کی واجب الادا رقم کا 20% سالانہ

500 روپے

اصل پر

100,000 یا اصل پر جو بھی زیادہ ہو

اصل پر (صارف ادا کرے گا)

اصل پر

کوئی نہیں

1500 روپے

3000 روپے

منظور شدہ رقم کا 0.1 فیصد زیادہ سے زیادہ 20,000 روپے

کوئی نہیں

اوپر دیئے گئے سلیب کے مطابق رقم

a. گودام کا کرایہ

b. گودام کے اسٹاف کی تنخواہیں اور مقدم چارجز

c. گودام کے معائنے کے چارجز:

i. میوہل حدود کے اندر

ii. میوہل حدود کے باہر

d. ترسیل کے چارجز - اگر گودام کا رکھوالا تعینات نہ کیا گیا ہو

e. اسٹاک کا معائنہ:

i. اگر یہ معائنہ بینک کی جانب سے مقرر کردہ ایجنٹس کریں

ii. اگر یہ معائنہ بینک کا اسٹاف کرے

f. کاروباری کمیٹیشن اور متلافی کمیشن

g. رہن کے سامان پر ڈیویری آرڈر چارجز

h. دیگر ضمنی اخراجات، بیمہ کا پرمیئم

ii) قانونی چارجز:

. اندرونی قانونی معاونت:

. جائیداد کے دستاویزات کی نظر ثانی

. دیگر اداروں کی طرف سے جاری کردہ سیکورٹیز پر استحقاق کی نوٹنگ

. بیرونی قانونی معاونت:

III سی آئی بی رپورٹ چارجز

IV قرضہ جاتی سہولیات پر زائد المعیاد شرح (بشمول رعایت اور لیزنگ)

V مزید پروموشن کیلئے اسٹاک فیکسٹ اور کرنٹ اثاثہ جات کے حصول کیلئے اضافی / مساوی

چارجز / سینڈ چارج صارفین / کلائنٹس کی درخواست پر NOC کا اجراء (صارف کی درخواست پر)

VI اگر بینک کے افسران کو رہن کی واپسی کیلئے رجسٹرار کے پاس جانا ہو تو ایسی صورت میں

ریڈمپشن فیس پارٹی سے وصول کی جائے گی

VII سیکورٹی آف اسٹیج میٹیشن (ایس ای سی پی) سے رجسٹریشن / ترمیم / اسٹیفیکیشن / ویکشین

آف چارج اور ڈائریکٹر / چارج سرج / سی سی سی وغیرہ

VIII کنٹرول اینڈ سیکورٹی دستاویزات پر اسٹیمپ ڈیوٹی ہر صوبے میں لاگو اسٹیمپ ڈیوٹی

ایکٹ کے مطابق

IX کمرشل وہیل لیونگ

a. پروسیسنگ فیس

b. دستاویز کے چارجز

c. ابتدائی بھینے کے چارجز

d. اضافی بھینے کے چارجز

e. بھینے کے چارجز - گاڑی کی دوبارہ ملکیت

f. تاخیر سے ادائیگی کے چارجز

g. چیک واپس ہونے پر چارجز

h. گاڑی کی رجسٹریشن / رجسٹریشن کے چارجز

i. دوبارہ ملکیت کے چارجز

j. گاڑی کا ٹیکس

k. قانونی چارجز

X۔ زرعی قرضہ جات

(i) تمام نئے / تجدید شدہ فارم اور نان - فارم لون

0.5 ملین تک کے قرضے

0.5 ملین سے زیادہ 2 ملین تک

2 ملین سے زیادہ 5 ملین تک

5 ملین سے زیادہ

(ii) پہلے ٹریڈر کیلئے قرضہ

(iii) دیگر ٹریڈر کیلئے قرضہ

XI کمرشل کریڈٹ

1000 روپے
2000 روپے
5000 روپے
10000 روپے
20000 روپے
30000 روپے
50000 روپے

(i) نیا/تجدید شدہ
2 ملین تک کے قرضے
2 ملین سے زیادہ 5 ملین تک
5 ملین سے زیادہ 10 ملین تک
10 ملین سے زیادہ 20 ملین تک
20 ملین سے زیادہ 50 ملین تک
50 ملین سے زیادہ 100 ملین تک
100 ملین سے زیادہ

کوئی نہیں
زائد المعیاد ایس ٹی ایف رقم پر 20% سالانہ کی شرح سے چارج کیا جائے گا

(ii) اضافہ / کی / ای او ایل / او آف ٹرانزیکشنز اور عارضی ایکسٹینشنز
(iii) کلید مدت زائد المعیاد قرضہ کی سہولت

XII۔ چینل فنانسنگ

5000 روپے فلیٹ
کوئی نہیں

(i) نئے / تجدید شدہ / اضافی
(ii) اضافہ / کی / ای او ایل / او آف ٹرانزیکشنز اور عارضی ایکسٹینشنز
نوٹ: سی ایف ڈی / براؤز / جب کے ذریعے کسی بھی ڈیلر شپ پروگرام کے مطابق بک شدہ تمام کیمرز / کاؤنٹرس یا سی ڈی ایف کے ذریعے وینڈر فنانسنگ پروگرام کیمرز اس کیلبر میں آتے ہیں اور
SOC کے صفحہ نمبر 7 پر (ii) اور (i) VI میں دئے گئے چارجز ان پر لاگو ہوں گے۔

XIII۔ اسمال اینڈ میڈیم اینٹرپرائزز (ایس۔ ایم۔ ای)

5,000 روپے
0.05 فیصد زیادہ سے زیادہ 50,000 روپے

i نیا/تجدید شدہ
فنانسنگ 10 ملین تک
فنانسنگ 10 ملین سے زیادہ
(ii) نیا/تجدید شدہ / او آف / اینڈسٹری
- نان فنانسنگ
- ایل جی / بل میں رعایت اور بل کی خریداری
(iii) ایس ایم ای صارفین (ایس ایم ای) کے واجب الادا چارجز

کوئی نہیں
کوئی نہیں
20 فیصد ایس ٹی ایف فیلڈ کے عوض

نوٹ: مندرجہ ذیل میں یعنی کنزیومر بینکنگ پروڈکٹس، چینل فنانسنگ، کمرشل ویکل لیزنگ کے علاوہ تمام ایس ایم ایز پر ایس ایم ای SOC لاگو ہیں۔

D. سیف ڈپازٹس میں سیکورٹیز، سیف کسٹڈی اور آرٹیکلز کی خرید و فروخت:

شیرز کی مارکیٹ ویلیو کا 0.25 فیصد / مقررہ سیکورٹیز کی لاگت علاوہ سی ڈی سی اور بیمہ چارجز

10,000 روپے کی پہلی قیمت خرید پر 0.125 فیصد یا اس کی لاگت۔ کم از کم 25 روپے
علاوہ سی ڈی سی اور بیمہ چارجز
10,000 روپے سے زائد کی رقم پر 0.0625 فیصد۔ کم از کم 100 روپے
بمعدی سی ڈی سی اور بیمہ چارجز

II شیرز اور سیکورٹیز کی خرید و فروخت

100 روپے فی ٹرانزیکشن (اندرونی / بیرونی) بمعہ سی ڈی سی چارجز جہاں قابل اطلاق ہوں۔

III سیف کسٹڈی کے لیے شیرز اور سیکورٹیز پر ہینڈلنگ فیس

5 روپے فی سیکورٹی علاوہ بیمہ چارجز

IV حکومتی سیکورٹیز پر ودڈرال فیس

جب فروخت شدہ شیرز اور / یا سیکورٹیز، سیف کسٹڈی میں سے ہوں، چاہے شیرز اور سیکورٹیز کی فروخت پر کمیشن، آسٹم (I) کے مطابق ہو یا ودڈرال فیس، آسٹم (II) اور (III) کے مطابق ہو، جو زیادہ ہو گا وہی وصول کیا جائے گا مین دونوں نہیں۔

100 روپے فی سیکورٹی

V ہینڈلنگ چارجز: حکومتی سیکورٹیز کے مبادلے، تجدید، کنسولیدیشن یا ضمنی تقسیم کے لیے۔

VI سیف ڈپازٹ میں آرٹیکلز

سیف ڈپازٹ میں آرٹیکلز کی فیس کی وصولی یا توجہ کرواتے وقت پیسگی وصول کی جائے گی یا پھر درج ذیل طریقوں سے لی جائے گی:

300 روپے فی سہ ماہی
100 روپے فی سہ ماہی

a باکسز اور پیکیجز
b لفافے

نوٹس:

1. درج بالا چارجز بروکرنگ کے اضافی چارجز ہیں۔
2. جہاں ٹی فلوئڈ سیکورٹیز حکومت / حکومتی اداروں اور نئے شیر فلوئڈیشن کے سبسکرائبرز کو ادا کرنا ہو، وہاں کمیشن وصول نہیں کیا جائے گا۔
3. جب شیرز / سیکورٹیز کی خرید و فروخت کے آرڈر کی میکل، بینک کے دیگر دفاتر سے کی گئی ہو تو تمام ضمنی اخراجات جیسے پونج، بیمہ چارجز وغیرہ، کمیشن بروکرنگ چارجز کے ساتھ اضافی طور پر وصول کیے جائیں گے۔

VII لاکر کی سہولیات

لاکرز چند ہی برانچوں میں دستیاب ہیں۔ اگر کسی ڈپازٹ، جمع نہ کروایا گیا تو موجودہ اور نئے صارفین سے لاکرز کی سالانہ فیس مدت شروع ہوتے وقت پیسگی وصول کی جائے گی

- a کی ڈپازٹ
یا
b سالانہ فیس
c لاکر توڑنے کے چارجز
d سیف ڈپازٹ میں سکیورٹیز، سیف کسٹڈی اور آرٹیکلز کی فروخت اور خرید
- چھوٹے لاکر کے لیے 30,000 روپے
درمیانے لاکر کے لیے 40,000 روپے
بڑے لاکر کے لیے 50,000 روپے
چھوٹے لاکر کے لیے 4,000 روپے
درمیانے لاکر کے لیے 5,000 روپے
بڑے لاکر کے لیے 6,000 روپے
5,000 روپے

E. ضمانتیں

- I بل آف لیڈنگ / ایگزیکٹو نمٹ نوٹس کے بدلے میں شپنگ کمینیز / ایگزیکٹو کو جاری کردہ ضمانتیں
II ڈیوٹی کی ادائیگیوں کے بدلے میں کسٹم کے کلکٹر کو جاری کردہ ضمانتیں
III دیگر ضمانتیں
IV برآمدی آمدنی پر وہولڈنگ ٹیکس سے مستثنیٰ ہونے پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو جاری کردہ ضمانتیں
V دیگر ضمانتیں جن میں سپلائر یا بائزر کریڈٹ / تنخواہ دار اسکیم کے تحت مؤخر ادائیگیوں کی ضمانتیں شامل ہیں:

- a اُن کلائنٹس کے لیے جو 15 ملین روپے تک کی ضمانتی سہولت استعمال کر رہے ہیں۔
b اُن کلائنٹس کے لیے جو 15 ملین روپے سے زائد کی ضمانتی سہولت استعمال کر رہے ہیں۔
(کمپیڈ سالانہ کاروبار کی تکمیل نہ ہونے کی صورت میں درج بالا شرح (a) کا اطلاق ہوگا اور باقی ماندہ رقم وصول کر لی جائے گی)

- VI ضمانتی لیٹر کے متن میں ترمیم (رقم اور مدت وہی رہے گا)
VII ایل جی کی وصولی کے چارجز (کارپوریٹ کسٹمرز کی جانب سے ضمانتوں کی وصولی اور یہ سروس ان کے لئے ہے جنہیں قرضے کی سہولت میسر ہے)
VIII بینشٹری / اسائن کی جانب سے ہماری ایل سی کے عوض بینڈلنگ گیمز کیلئے سروس چارجز (بینک کے باہر سے یا دوسرے بینک سے دعویٰ وصول کرنے کی صورت میں صارف سے چارجز کی وصولی) نوٹس: رقم میں اضافہ ہو یا معینہ مدت میں، یکساں چارجز قابل اطلاق ہوں گے۔
ضمانت جاری ہونے کی تاریخ سے لے کر ضمانت کی میعاد ختم ہونے تک ضمانتی کمیشن وصول کیا جائے گا۔

F. انویسٹمنٹ پورٹفولیو سکیورٹیز اکاؤنٹ (IPS)

- (i) انویسٹمنٹ پورٹفولیو سکیورٹیز
(ii) کسٹڈی اکاؤنٹ چارجز

1200 روپے فی ٹرانزیکشن
2500 روپے فی ماہ

G. متفرق چارجز:

1. چیکس کی ادائیگی روکنا
 2. لوز چیکس کا اجراء
 3. بینک کو چیک وصول ہوں اور ناکافی رقم کے سبب بنا ادائیگی واپس کر دیئے جائیں
 4. اسٹینڈنگ انسٹرکشن چارجز (بینشٹری اکاؤنٹ کے لیے کوئی چارجز نہیں)
 5. صارف کی درخواست پر ادائیگی کے حوالے سے اعتباری سرٹیفکیٹ کا اجراء
 6. صارف کی درخواست پر اکاؤنٹ اسٹینڈنگ کا اجراء
- (اگر صارف یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بھیجی گئی اسٹینڈنگ وصول نہیں ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں کوئی چارجز نہیں لیے جائیں گے)

- (i) 6 ماہ تک اکاؤنٹ اسٹینڈنگ
(ii) 6 ماہ سے زائد عرصے کا اکاؤنٹ اسٹینڈنگ

35 روپے
35 روپے فی 6 ماہ، اضافی

7. اُسی دن، چیکس کلیئر ہونے کے چار جز
8. اُسی دن چیکس کلیئر کرنے یا رقم کم ہونے کی صورت میں واپس کرنے کے چار جز
9. آن لائن، چیک واپس ہونے پر چار جز
10. دیگر بینکوں/بجٹ مرکز سے کوپنز پر منافع وصول کرنے کے کلیکشن چار جز
11. ادا کردہ چیکس کی فوٹو کاپیاں
12. ادا کردہ چیکس کی تصدیق کے حوالے سے سرٹیفکیٹ کا اجراء
13. چیک بک کے چار جز (پیشینہ اکاؤنٹ کے لیے مفت چیک بک)
14. سی ڈی آر کے اجراء کے چار جز
15. سی ڈی آر کی ڈپلیکیٹ کے چار جز
16. سی ڈی آر کی منسوخی کے چار جز
17. اکاؤنٹ مینینٹنس سرٹیفکیٹ
18. بذریعہ این آئی ایف ٹی، بیرون شہر چیکس کی وصولی
19. بیرون شہر، چیک کی واپسی کے چار جز
20. بذریعہ پریزم سسٹم تھرڈ پارٹی کے فنڈز منتقلی کی ادائیگی
- کم از کم قیمت کی حد 1,000,000 روپے اور زائد
- پیر سے جمعہ : صبح 9 بجے سے دوپہر 1:30 بجے تک
- دوپہر 1:30 بجے سے دوپہر 3:00 بجے تک
- دوپہر 3:00 بجے سے شام 4:00 بجے تک

- کم از کم قیمت کی حد 100,000 روپے

- پیر سے جمعہ : صبح 9 بجے سے شام 4:30 بجے تک

50 روپے فی ٹرانزیکشن (بذریعہ ایک ایم ٹی 102 منیج، زیادہ سے زیادہ

10 پیمنٹ انسٹرکشنز بھیجی جاتی ہیں)

100 روپے فی سرٹیفکیٹ

150 روپے

180 روپے فی سرٹیفکیٹ

150 روپے

275 روپے

375 روپے

575 روپے

21. بیرون ملک ملازمت کا سرٹیفکیٹ

22. ایکسپریس چیک بک (10 لیوز)

23. ہیلنس کا سرٹیفکیٹ

24. پرانے ریکارڈ کا حصول

1 سالہ ریکارڈ

2 سالہ ریکارڈ

3 سالہ ریکارڈ

3 سال سے زائد

150 روپے فی کیس

اصل پر (اگر جیتی گئی رقم) -/100,000 روپے کے مساوی یا اس سے زیادہ ہو

500 روپے

25. قومی پرائز بونڈ پر بینک چار جز۔ جیتی گئی رقم کا دعویٰ

26. قومی پرائز بونڈ پر CIT (کیش ان ٹرانزٹ) چار جز۔ جیتی گئی رقم کا دعویٰ

27. اسٹیٹ بینک آف پاکستان/نیشنل بینک آف پاکستان/اسٹیٹ کلیئرنگ (صرف

صارف کی درخواست پر) کے چیکس کا اجراء

کنزیومر بینکنگ پروڈکٹس

I. ذاتی قرضہ جات

- پروسیسنگ فیس
- پیشگی ادائیگی
- تاخیر ادائیگی
- جزوی ادائیگی کی فیس / چارجز
- مقدمہ سازی / قانونی چارجز
- قانونی دستاویزات کے چارجز

II. آٹو کے قرضہ جات

- پروسیسنگ فیس
- نئی گاڑیاں
- درآمد شدہ / مرمت شدہ اور استعمال شدہ گاڑیاں
- جلد ادائیگی کی فیس / چارجز
- تاخیر ادائیگی
- چیمپس کے واپس ہونے پر چارجز
- قبضے کی بحالی پر چارجز (اندرون اور بیرون شہر)
- گاڑی کی تشخیص کے چارجز
- گاڑی کے دوبارہ قبضے کی تشخیص کے چارجز
- قانونی نوٹس کے چارجز
- جزوی ری پیمینٹ فیس / چارجز
- ذاتی، حادثاتی بیمہ
- گاڑی کی رجسٹریشن / ٹرانسفر چارجز
- ویز ہاؤس چارجز

7000 روپے فلیٹ

7500 روپے فلیٹ

آفر لیٹر میں بیان کردہ شرائط و ضوابط کے مطابق

قسط کی فی تاخیر ادائیگی 800 روپے

500 روپے فی کیس

100,000 روپے یا اصل جو بھی کم ہو

- اصل پر
- اصل پر
- اصل پر
- آفر لیٹر میں بیان کردہ شرائط و ضوابط کے مطابق
- کوئی نہیں
- اصل پر
- اصل پر جہاں لاگو ہو

III۔ قرضہ برائے رہن

- پروسیسنگ فیس
- پیشگی ادائیگی / فیس / چارجز
- تاخیر ادائیگی کے چارجز
- واپس آئے ہوئے چیکس کے چارجز
- جائیداد کی قیمت کا اندازہ لگانا
- ویکل کی فیس
- آمدنی کے چارجز / فیس
- قانونی دستاویزات کے چارجز

IV. پرائم ہنسر یوتھ بزنس پلان (اسال اینڈ میڈیم انٹرپرائز)

- قانونی دستاویزات کے چارجز
- پروسیسنگ فیس
- تخمینہ مالیت کے چارجز
- ویکل کی فیس
- آمدنی کا تخمینہ

v. کیش فنانس

- قانونی دستاویز کے چارجز
 - پروسیسنگ فیس
 - استحقاق کی مارکنگ کے چارجز (بینک الحیب کے علاوہ)
 - تاخیر ادائیگی کے چارجز
- اصل پر
کوئی فیس نہیں
500 روپے
ٹرم فنانس: تاخیر ادائیگی چارجز 600 روپے

vii آٹولیزنگ (بذریعہ کمزیر میٹنگ ڈویژن)

- پروسیسنگ فیس فی ٹریچ
 - دستاویزات کے چارجز
 - ابتدائی صفینے کی فیس / چارجز
 - تاخیر سے کی گئی ادائیگی کے چارجز
 - واپس ہو جانے والے چیک کے چارجز
 - گاڑی کی دوبارہ ملکیت کے فی گاڑی چارجز / اندرون اور بیرون شہر
 - گاڑی کے معائنے کے چارجز
 - گاڑی کی رجسٹریشن / ٹرانسفر چارجز
- لیز کی رقم کا 0.1 فیصد یا 5000 روپے۔ جو بھی زیادہ ہو
اصل پر
کوئی فیس نہیں
لیز دینے والے کی متفقہ شرائط و ضوابط کے مطابق
500 روپے فی کیس
100,000 روپے یا اصل پر۔ جو بھی کم ہو
اصل پر
اصل پر

آئٹریٹ ڈیوری (اے ڈی سی) چینلو

i. اے ڈی ایم

- اے ڈی ایم پن کا دوبارہ اجراء
 - انٹربینک فنڈز منتقلی، بذریعہ اے ڈی ایم
- 10,000/- روپے تک
10,000/- روپے سے زیادہ اور -/50,000 روپے تک
50,000/- روپے سے زیادہ اور -/75,000 روپے تک
75,000/- روپے سے زیادہ اور -/150,000 روپے تک
d. بینک الحیب کے کسی بھی بینک میں اکاؤنٹ میں رقم کی تبدیلی
e. اے ڈی ایم سوچ ٹرانزیکشنز
(i) دیگر بینکوں کے اے ڈی ایم سے کیش نکلوانے پر
لوکل بیلنس معلوم کرنے کے چارجز (ون لنک)

ii. انٹریٹ بینکنگ

- انٹریٹ بینکنگ پاس ورڈ کا دوبارہ اجراء
 - انٹربینک فنڈز منتقلی بذریعہ انٹریٹ
- 10,000/- روپے تک
10,000/- روپے سے زیادہ اور -/50,000 روپے تک
50,000/- روپے سے زیادہ اور -/75,000 روپے تک
75,000/- روپے سے زیادہ اور -/250,000 روپے تک
c. بینک الحیب کے کسی اکاؤنٹ میں رقم کی منتقلی
- 100 روپے
25 روپے
40 روپے
60 روپے
100 روپے
کوئی چارج نہیں
- 18.75 روپے فی ٹرانزیکشن
2.5 روپے فی ٹرانزیکشن
- کوئی چارج نہیں
25 روپے
40 روپے
60 روپے
100 روپے
کوئی چارج نہیں

III. ویزا ڈیپٹ کارڈ

- بنیادی کارڈ کی سالانہ فیس
- ضمینی کارڈ کی سالانہ فیس
- بنیادی کارڈ کے اجراء کی
- سپلیمنٹری کارڈ کی اجراء کی
- بنیادی کارڈ کی تجدید کی فیس
- سپلیمنٹری کارڈ کی تجدید کی فیس
- متبادل کارڈ کی فراہمی
- اے ٹی ایم بین الاقوامی کیش وڈرال
- مقامی سطح پر چارج واپسی کی درخواست پر عائد چارجز
- بین الاقوامی سطح پر چارج واپسی کی درخواست پر عائد چارجز
- مقامی سطح پر وصولی کی درخواست پر عائد چارجز
- بین الاقوامی سطح پر وصولی کی درخواست پر عائد چارجز
- مقامی سطح پر اے ٹی ایم کیش وڈرال (ون۔ لنک/ایم نیٹ)
- بین الاقوامی سطح پر بینکس انکوائری چارجز
- ویزا آر بیٹیشن چارجز
- غیر ملکی ٹرانزیکشن پر چارجز
- بذریعہ اے ٹی ایم انٹرنیٹ رقم کی منتقلی

25 روپے

40 روپے

60 روپے

100 روپے

10,000/- روپے تک

10,000/- روپے سے زیادہ اور -/50,000 روپے تک

50,000/- روپے سے زیادہ اور -/75,000 روپے تک

75,000/- روپے سے زیادہ اور -/250,000 روپے تک

IV. موبائل بینکنگ

- انٹرنیٹ فنڈز منتقلی بذریعہ موبائل بینکنگ

10,000/- روپے تک

10,000/- روپے سے زیادہ اور -/50,000 روپے تک

50,000/- روپے سے زیادہ اور -/75,000 روپے تک

75,000/- روپے سے زیادہ اور -/150,000 روپے تک

25 روپے

40 روپے

60 روپے

100 روپے

100 روپے

کوئی چارج نہیں

b. موبائل بینکنگ پن کا دوبارہ اجراء

c. بینک الحیب کے کسی اکاؤنٹ میں رقم کی منتقلی

V. چائنا یونین بے

- سالانہ فیس - بنیادی
- سالانہ فیس - ضمینی
- بنیادی کارڈ کے اجراء کی فیس
- سپلیمنٹری کارڈ کی اجراء کی فیس
- بنیادی کارڈ کی تجدید کی فیس
- سپلیمنٹری کارڈ کی تجدید کی فیس
- تمام متبادل کارڈ زکی فراہمی کی فیس
- مقامی سطح پر اے ٹی ایم کیش وڈرال
- بین الاقوامی سطح پر اے ٹی ایم کیش وڈرال
- کیش وڈرال - بینک الحیب لمیٹڈ اے ٹی ایم

500 روپے (صرف سیونگ اکاؤنٹس کے لیے)

350 روپے (صرف سیونگ اکاؤنٹس کے لیے)

500 روپے (صرف سیونگ اکاؤنٹس کے لیے)

350 روپے (صرف سیونگ اکاؤنٹس کے لیے)

500 روپے (صرف سیونگ اکاؤنٹس کے لیے)

350 روپے (صرف سیونگ اکاؤنٹس کے لیے)

500 روپے (فلپٹ)

18.75 روپے فی ٹرانزیکشن

200 روپے فی ٹرانزیکشن یا ٹرانزیکشن کی رقم کا 2 فیصد، جو بھی زیادہ ہو

کوئی چارج نہیں

35 روپے
ٹرانزیکشن کی رقم پر 2.5 فیصد
اصل پر
اصل پر
اصل پر
اصل پر

25 روپے
40 روپے
60 روپے
100 روپے

کوئی فیس نہیں
25 روپے
25 روپے

400 روپے
400 روپے
400 روپے
350 روپے
اصل پر
اصل پر

25 روپے
40 روپے
60 روپے
100 روپے

کوئی فیس نہیں
کوئی فیس نہیں
کوئی فیس نہیں

25 فیصد سالانہ

500 روپے
500 روپے یا کم از کم واجب الادا ادائیگی کا 10 فیصد، جو بھی زیادہ ہو
500 روپے یا 3 فیصد، جو بھی زیادہ ہو
500 روپے
200 روپے
اصل پر
اصل پر
ٹرانزیکشن کی رقم پر 3 فیصد
50 روپے ماہانہ

معاهدے کے مطابق
معاهدے کے مطابق
معاهدے کے مطابق
معاهدے کے مطابق
معاهدے کے مطابق
معاهدے کے مطابق
معاهدے کے مطابق

k. بین الاقوامی سطح پر بیننس انکوائری

l. بین الاقوامی رینٹل پر چارجز
m. مقامی سطح پر چارج واپسی کی درخواست پر عائد چارجز
n. بین الاقوامی سطح پر چارج واپسی کی درخواست پر عائد چارجز
o. مقامی سطح پر وصولی کی درخواست پر عائد چارجز
p. بین الاقوامی سطح پر وصولی کی درخواست پر عائد چارجز
q. اے ٹی ایم کے ذریعے انٹرنیٹ فنڈ ٹرانسفر

10,000/- روپے تک
10,000/- روپے سے زیادہ اور -/50,000 روپے تک
50,000/- روپے سے زیادہ اور -/75,000 روپے تک
75,000/- روپے سے زیادہ اور -/150,000 روپے تک

VI. یوٹیٹی بلز اور دیگر ادا کی گئیوں کیلئے چارجز
A. ڈائریکٹ ڈیبٹ کی سہولت

a. رجسٹریشن
b. ہر کامیاب ٹرانزیکشن
c. ناکافی فنڈز کی وجہ سے ناکامیاب ٹرانزیکشن

VII بے پاک

a. سالانہ فیس - پرائمری
b. اجراء کی فیس
c. تجدید کی فیس
d. متبادل کی فیس
e. لوکل چارج بیک کی درخواست کے چارجز
f. لوکل ریٹریبول درخواست کے چارجز
g. انٹرنیٹ فنڈز کی منتقلی بزرگ اے ٹی ایم

10,000/- روپے تک
10,000/- روپے سے زیادہ اور -/50,000 روپے تک
50,000/- روپے سے زیادہ اور -/75,000 روپے تک
75,000/- روپے سے زیادہ اور -/100,000 روپے تک

VIII. کریڈٹ کارڈ

a. جوائن کرنے کی فیس
b. سالانہ فیس - گرین / گولڈ
c. ضمنی فیس

d. کریڈٹ کارڈ / اے پی آر
e. حد سے زیادہ کی فیس
f. تاخیر ادائیگی فیس
g. کیش ایڈوائس فیس
h. کریڈٹ کارڈ / پن کی تبدیلی کی فیس
i. چیک کے واپس ہونے پر فیس

j. فروخت کی رسید کی وصولی کے چارجز (مقامی)
k. فروخت کی رسید کی وصولی کے چارجز (بین الاقوامی)
l. غیر ملکی ٹرانزیکشن پر چارجز

IX. ایس ایم ایس الرٹ سروس

a. ملک بھر میں میسر کیشن سولیوشنز (کارپوریٹس / ایس ایم ایز / ایف آئی کے لیے)

b. بلک سیلبریز / ادائیگیاں
c. ڈیویڈنڈ واپس کی ادائیگی کا انتظام
d. کسٹمائزڈ ایم آئی ایس / رپورٹنگ
e. اجراء / فائٹنرز کے لیے مینٹرنز (آئی پی او / آئی ایف سیز / رائٹ شیئرز وغیرہ)
f. دیگر کوئی سروس
g. الحیب کی ادائیگیوں کا نظام (بلک میسینس)

نوٹ:

- حکومت کی جانب سے لاگوٹیکسز / حکومتی ڈیوٹیاں ریکوئلر چارجز کے ساتھ صارف سے وصول کی جائیں گی، جہاں لاگو ہوں۔
- اسلامک بینکنگ کے صارفین سے اسلامک بینکنگ شیڈیول آف چارجز کے مطابق فیس وصول کی جائے گی
- پروسیسنگ کے دوران غلطی کی صورت میں عائد ہونے والے چارجز واپس کر دیئے جائیں گے
- آن لائن کیش جمع کروانے / نکلوانے کیلئے آن لائن چارجز ہفتے کے دن وصول نہیں کیے جائیں گے

مندرجہ ذیل کے اکاؤنٹس سروس چارجز سے مستثنیٰ ہوں گے:

- (i) زکوٰۃ کے مستحقین
 - (ii) طالب علم
 - (iii) تنخواہ کیلئے سرکاری / نیم سرکاری ملازمین
 - (iv) پنشن اکاؤنٹس سروس چارجز سے مستثنیٰ ہوں گے بشمول وفات پانے والے ملازمین کی بیوائیں / بچے جو فیملی پنشن کے اہل ہیں
 - (v) غیر فعال اکاؤنٹس
 - (vi) اسکول منیجمنٹ کمیٹی اکاؤنٹ (صرف سندھ کیلئے۔ بی پی آر ڈی سرکلر نمبر 02، جنوری 2010)
- UNSC ریکولیشنز کے تحت بلاک / منجمد اکاؤنٹس یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان / قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کے جاری کردہ دیگر ایس آر او کسی بھی قسم کے چارجز میں کسی بھی قسم کی کٹوتی سے مشروط نہیں ہوں گے۔